

نوٹ: سیکشن (ب) اور سیکشن (ج) کیلئے کل وقت 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہیں۔

سیکشن (ب)

سوال ۲: درج ذیل میں سے دس (۱۰) اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہر جزو کے پانچ نمبر ہیں۔

- (۱) کیلوری کسے کہتے ہیں؟ (۲) نمدہ پر کپڑے کی بنائی کیسے کی جاتی تھی؟
- (۳) حیاتین "الف" کی کمی کی علامات لکھیں؟ (۴) کشش کی پہچان سے کیا مراد ہے؟
- (۵) سلائی کے ڈبے کا ضروری سامان کیا ہونا چاہیے؟
- (۶) پروٹین ہمارے جسم میں کیا کام سرانجام دیتی ہے؟ (۷) آیوڈین کے ذرائع بیان کریں؟
- (۸) آیوڈین کی کمی سے جسم میں کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں؟
- (۹) کیلشیم اور فاسفورس جسم میں کونسے تین اہم کام سرانجام دیتے ہیں؟
- (۱۰) سلائی کے ذاتی اور عام سازو سامان کے نام لکھیں؟ (۱۱) بنائی کی مختلف اقسام کے بارے میں تحریر کریں؟
- (۱۲) ریشم کاریشہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مختصر آبیان کریں۔ (۱۳) دھننے کا عمل کیا ہے؟ وضاحت کریں۔

سیکشن (ج)

نوٹ: مندرجہ ذیل میں سے تین سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ ہر سوال کے نمبر برابر ہیں۔

سوال 3: معدنی نمکیات کیا ہیں؟ کوئی سے دو کے بارے میں تفصیلاً لکھیں؟

سوال 4: خاندان کیلئے خوراک کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟

سوال 5: ریشم کسے کہتے ہیں؟ اسکی کتنی اقسام ہیں؟ نیز نباتاتی ریشموں پر نوٹ لکھیں؟

سوال 6: کھانے کا بجٹ بناتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟

